

برائے فوری اجراء

## آنے والی تقریبات میں برامپٹن کے تنوع کا جشن منایا جائے گا

**تامل ہیریٹیج منتھ، چائنیز نیو ایئر اور بلیک ہسٹری منتھ کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔**

برامپٹن، آن (20 جنوری 2020) – میئر پیٹرک براؤن اور کونسلرز رہائشیوں کو اس جنوری اور فروری میں تقریبات کے ایک سلسلے کے ذریعے برامپٹن کے تنوع کا جشن منانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تامل ثقافت کے متعلق مزید جانیں، نئے چینی سال کو منائیں اور اپنی کمیونٹی میں موجود کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی خدمات اور کردار سے روشناس ہوں۔

### تامل ہیریٹیج منتھ

برامپٹن میں جنوری کو تامل ہیریٹیج منتھ کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے دوران کینیڈا کے تامل رہائشیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ بروز جمعہ، مورخہ 24 جنوری کو شام 7 تا رات 9 بجے تک سٹی ہال اٹریم میں اس کمیونٹی کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید جانیں۔ روایتی کھانوں کا لطف اٹھائیں، فن کے براہ راست مظاہروں سے لطف اندوز ہوں اور اس پرجوش موقع پر تامل ہیریٹیج منتھ کا جھنڈا بلند کرنے میں کمیونٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔

### چائنیز نیو ایئر

بروز اتوار، مورخہ 26 جنوری کو دن 1 تا 4 سٹی ہال اٹریم کے برامپٹن سٹی ہال میں نئے قمری سال اور چین کے چوبے کے سال کو خوش آمدید کہیں۔ اس پرجوش جشن میں ڈریگن اور شیروں والے مشہور رقص، خطاطی کے فنکار اور ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں شامل ہوں گی۔ کمیونٹی کے رہنما آنے والے سال میں خوشحالی اور اچھی صحت کی دعائیں دیں گے۔ اس تقریب کو برامپٹن چائنیز بزنس ایسوسی ایشن کے ساتھ شراکت داری میں منعقد کیا جا رہا ہے اور اسے فخریہ طور پر HSBC اور مینڈرین ریسٹورینٹ کی معاونت حاصل ہے۔

### بلیک ہسٹری منتھ

فروری کو پورے ملک میں بلیک ہسٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے، جو سیاہ فام کینیڈینز کی عظیم میراث اور مسلسل خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ فروری میں شہر کی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کے لیے خوشی منانے کے لیے دو تقریبات میں شرکت کریں۔ بروز ہفتہ، 1 فروری کو دن 2 بجے کین ولینز اسکوائر میں پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ اس مہینے کا آغاز کریں اور بروز جمعہ، 28 فروری کو سٹی ہال میں بیٹ آف بلیک ہسٹری منتھ کی تقریب کے ساتھ اس مہینے کا اختتام کریں۔ اس اختتامی تقریب میں نمایاں طور پر کنزرویٹری میں دن 12 تا رات 8 بجے تک کھانوں اور پرچوں کے فروخت کنندگان کی ایک مارکیٹ اور ایک تقریب شامل ہو گی، جس میں اٹریم میں شام 6 بجے موسیقی، رقص اور سپوکن ورڈ کے مظاہرے شامل ہوں گے۔

بلیک ہسٹری منتھ کی تقریب میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے فنکاروں اور فروخت کنندگان کو بروز جمعرات، 30 جنوری تک سٹی کو درخواستیں دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ [تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔](#)

یہ تقریبات برامپٹن کے کمیونٹی ریکگنیشن پروگرام کا حصہ ہیں، جو ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہے، جنہیں سٹی پورے سال کے دوران برامپٹن کے تنوع کے اعزاز میں منعقد کرتا ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والی کئی کمیونٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہیں۔

ان اور شہر کی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

**اقتباس**

"برامپٹن ایک رنگ برنگی کمیونٹی ہے اور سٹی کونسل اپنی کمیونٹی کے زبردست تنوع کا جشن منانے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ کونسل کی جانب سے، ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ثقافتی پس منظروں سے تعلق رکھنے والے رہائشی تامل ورثے اور ثقافت کے بارے میں مزید جاننے، نئے چینی سال کو منانے اور سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹیوں کی خدمات کو پہچاننے کے لیے ان آنے والی زبردست تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)